

# Telephone conversation between Prime Minister and H.E. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada

June 16, 2020

وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے وزیر اعظم عزت مآب جسٹن ٹروڈو کے درمیان  
ٹیلیفون پر گفتگو

16 جون، 2020

وزیر اعظم نے آج کینیڈا کے وزیر اعظم عالی جناب جسٹن ٹروڈو سے فون پر بات چیت کی۔

رہنماؤں نے ایک دوسرے کو اپنے اپنے ممالک میں کووڈ 19 وبائی مرض سے متعلق ابھرتے ہوئے صورتحال کے بارے میں اپڈیٹ کیا، اور صحت اور اقتصادی بحران سے نمٹنے کے لئے بین الاقوامی تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

انہوں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ ہندوستان اور کینیڈا کی شراکت کووڈ کے بعد کی دنیا میں بہتری کے لئے ایک طاقت ثابت ہوسکتی ہے، جس کے تحت عالمی خطاب میں انسان دوست اقدار کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔

رہنماؤں نے عالمی ادارہ صحت سمیت کثیرالجہتی اداروں کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا، اور صحت، سماجی، معاشی اور سیاسی امور پر مختلف بین الاقوامی فورم میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔

وزیر اعظم مودی نے کینیڈا میں ہندوستانی شہریوں کے لئے حالیہ دنوں میں کینیڈا کے حکام کی طرف سے فراہم کردہ امداد، اور ان کی ہندوستان واپسی میں سہولت فراہم کرنے کے لئے انہیں گرم جوشی سے سراہا۔ وزیر اعظم ٹروڈو نے بھی اسی طرح کینیڈا کے شہریوں کی ہندوستان سے واپسی کے لئے پیش کردہ سہولت پر خوشی کا اظہار کیا۔

دونوں رہنماؤں نے آنے والے دنوں میں باہمی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چونکہ ہندوستان اور کینیڈا کی دو بڑی معیشتیں جمہوری اقدار کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لئے ان دونوں کے بیچ بہت سے عالمی امور میں فطری طور پر ہم آہنگی اور اتفاق ہے۔

نی دہلی

16 جون، 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.